



تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی گھریلو زبان استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کے بچے کو سماجی اور جذباتی طور پر فائدہ ہوگا، بلکہ ان کی ادراکی مہارت بھی بہتر ہو سکتی ہے، دماغ کا مجموعی عمل بہتر ہو سکتا ہے، اور انہیں ایک نئی زبان سیکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔

اپنے بچے کے ساتھ اپنی گھریلو زبان استعمال کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔

- آپ کی فیملی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ آسانی سے بات کر سکے گی اور آپ مشکل واقعات سنا سکتے ہیں اور لطیفے اور گانے سنا سکتے ہیں۔
- آپ کو اور آپ کے بچے کو ایک دوسرے سے قربت کا احساس ہوگا۔
- آپ کا بچہ اس زبان کو سنے گا اور سیکھے گا جو رائج ہے اور بامعنی ہے۔
- اس بات کا امکان بڑھ جائے گا کہ آپ کا بچہ آپ کو اپنے جذبات سے آگاہ کرے گا۔
- آپ اور آپ کا بچہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔
- اس بات کا امکان بڑھ جائے گا کہ آپ کا بچہ آپ کی بات سنے گا۔
- آپ کے بچے کو اپنی زبان سے وابستگی کا احساس ہو سکتا ہے اور انہیں اپنی زبان اور ثقافت پر فخر ہو سکتا ہے۔
- آپ کا بچہ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ اور گھر کے دوستوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔
- اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا بچہ مزید بہتر طریقے سے دونوں زبانیں بول سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسکول میں مزید کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔
- جب کوئی نیا بچہ پہلی بار کسی چائلڈ کیئر پروگرام میں شرکت کرتا ہے یا اسکول جانا شروع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے انگریزی سمجھنے یا بولنے میں مشکل ہو، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے! کچھ ہی مہینوں میں، زیادہ تر بچے انگریزی سیکھ جاتے ہیں۔ اور جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انگریزی بولنا شروع کر دے۔

اپنی گھریلو زبان استعمال کرنے کے لیے تجاویز:

- ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ اپنی گھریلو زبان استعمال کریں اور گھر کے سبھی افراد کو اس کے استعمال کی حوصلہ افزائی کریں۔
- اگر آپ کا بچہ انگریزی بولتا ہے تو اس سے کہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو اپنی گھریلو زبان میں بتاؤ۔ (پہلے آپ اس کو اپنے گھر کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، تاکہ وہ سیکھ سکے کہ کیسے کہنا ہے)۔
- گیم، گانے اور کہانیوں کا استعمال کر کے گھریلو زبان کو مزید دلچسپ بنائیں۔
- حقیقی بات چیت کریں، اس کے بجائے کہ آپ اپنے بچے کو صرف یہ کہیں کہ کیا کرنا ہے۔
- اگر آپ کا بچہ اپنے گھر کی زبان بولنے پر احتجاج کرتا ہے، تو آپ گھر کا یا کوئی مخصوص وقت (مثلاً رات کا کھانا) متعین کر سکتے ہیں جس میں صرف گھر کی ہی زبان بولی جا سکتی ہے۔